



سوال

(786) آج کل نذرونیاز کا بڑا رواج ہے الخ

جواب

السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ

آج کل نذرونیاز کا بڑا رواج ہے پوچھنا یہ ہے کہ ایک آدمی کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ میرا کام کر دے تو ۱۰۰ نفل پڑھوں گا ایک کہتا ہے کہ اللہ میرا یہ کام کر دے تو میں اتنی رقم غریبوں میں تقسیم کروں گا ایک کہتا ہے اللہ میری شادی فلاں جگہ کر دے تو میں اپنی اولاد اسلام کے لیے وقف کر دوں گا کیا سب سو سے بازی کی شکل نہیں ہے کیا یہ لوگ اللہ تعالیٰ کو لالچ دے کر کوئی کام کروانا چاہتے ہیں؟

الجواب بعون الوهاب بشرط صحیحہ السؤال

و علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ

الحمد للہ، والصلاة والسلام علی رسول اللہ، أما بعد!

جواب: تینوں صورتیں جو آپ نے رقم فرمائی ہیں طاعت و نیکی کی نذر کے زمرہ میں آتی ہیں طاعت و نیکی کی نذر بھی شرع میں منع ہے تاہم اگر کوئی طاعت و نیکی کی نذر مان لے تو اسے پورا کرنا فرض اور ضروری ہے ورنہ کفارہ نذر ادا کرنا ہوگا۔ ۳/۱۰/۱۴۱۹ھ

قرآن و حدیث کی روشنی میں احکام و مسائل

جلد 01 ص 502

محدث فتویٰ